

Visit of External Affairs Minister to Maldives and Mauritius (February 20-24, 2021)

February 18, 2021

بھارتی وزیر خارجہ کا مالدیپ اور ماریشیس (20-24 فروری، 2021) کا دورہ

18 فروری، 2021

وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر 20-21 فروری 2021 کو مالدیپ اور 22-23 فروری 2021 کو ماریشیس کا دورہ کریں گے۔

مالدیپ کے اپنے دورے کے دوران، وزیر خارجہ مالدیپ کے عزت مآب صدر ابراہیم محمد صالح سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ مالدیپ کے خارجہ، دفاع، خزانہ، معاشی ترقی اور منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر کے وزراء کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ مالدیپ کے اسپیکر محمد نشید سے بھی ملاقات کریں گے اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے کے دوران، وزیر خارجہ ہمارے دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ منصوبوں کی پیشرفت کا بھی جائزہ لیں گے اور کووڈ کے بعد معاشی بحالی کے لئے مالدیپ کے لئے ہندوستان کی مسلسل امداد سمیت موجودہ کووڈ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔

ماریشیس کے اپنے دورے کے دوران، وزیر خارجہ عزت مآب صدر پرتھوی راج سینگ روپن سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ عزت مآب وزیر اعظم جناب پروند جگنوتھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ اپنے ہم منصب وزیر خارجہ، علاقائی انضمام اور بین الاقوامی تجارت اور لینڈ ٹرانسپورٹ اور لائٹ ریل کے وزیر عالی جناب ایلن گانو سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے کے دوران، وزیر خارجہ ہمارے دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں، ماریشیس میں ہندوستان کے ذریعہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر جاری عمل درآمد کا جائزہ لیں گے اور ماریشیس میں ہندوستان کی امداد سمیت باہمی دلچسپی کے دوطرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔

مالدیپ اور ماریشیس دونوں بحر ہند کے خطے میں ہندوستان کے اہم سمندری پڑوسی ہیں اور وزیر اعظم کے "ساگر" (خطے میں سب کے لئے سلامتی اور نمو) کے وژن میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس اہمیت کی عکاسی کرتی ہے کہ ہندوستان مالدیپ اور ماریشیس کے ساتھ اپنے قریبی اور دوستانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو خاطر خواہ تعاون اور عوام سے عوام کے مابین مستحکم تعلقات کو مزید رفتار فراہم کرے گا۔

نئی دہلی

18 فروری، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.